



## داعش کا ظہور کب اور کیسے؟ الشیخ علی بن حسن الحلبي

### داعش کا ظہور کیسے ہوا؟

الحمد للہ رب العالمین والعاقبہ للمتقین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد !

سب سے پہلے جس بات کو جاننا بہت ضروری ہے ، وہ یہ ہے کہ داعش کا جب اعلانیہ طور پر ظہور ہوا تھا تو یہ عراق اور شام کے صرف چند محدود علاقوں میں تھا۔ یہ دونوں ممالک ایک لمبے عرصے سے افتراق و انتشار بلکہ خانہ جنگی کا شکار ہیں، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں۔ یہاں کوئی امن و امان نہیں ہے۔

اس اعتبار سے داعش کا ظہور ان حالات میں واقعاً نبی کریم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے جو آپ نے خوارج کے بارے میں فرمایا تھا کہ

يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ

”و لوگوں کے باہمی اختلاف کے وقت ظاہر ہو گئے“

[اس حدیث کو ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنن: 923، ابن ابی شیبہ نے مصنف: 37932 اور ابن عبد البر نے التمهید: 23/331 میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے]

